

220106- میت کو سطح زمین کے اوپر بنائی گئی [کمرہ نما] قبر میں دفن کرنے کا حکم

سوال

سوال: ہمارے ہاں مصر کے کچھ دیہاتوں میں مُردوں کو سطح زمین کے اوپر بنی ہوئی میت کے سائز کے برابر چھوٹی چھوٹی کمرہ نما قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کیلئے انہیں کھول کر میت کو اس میں سطح زمین پر ہی رکھ دیا جاتا ہے، پھر میت کے کفن پر صرف چلو بھر مٹی پھرک دی جاتی ہے، جس وقت میں نے پوچھا کہ: کیا یہ لازمی نہیں ہے کہ میت کو زمین کے نیچے دفن کیا جائے، تو انہوں نے کہا: یہاں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ زرعی زمین میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ زمین میں دفن کرنا ایسی جگہ مناسب ہوتا ہے جہاں زمین خشک ہو، تاکہ میت کا جسم متعفن نہ ہو، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر صحیح نہیں ہے تو پانی سے تر زرعی زمین میں دفن کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟

پسندیدہ جواب

مسلمان جس طریقہ پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مُردوں کو زمین کے نیچے دفن کیا جائے، اور یہی عمل فرمان باری تعالیٰ کے موافق ہے:

(مِنَّا مَخْلُقَاتُكُمْ وَفِيْنَا نُعِيدُكُمْ وَفِيْنَا نُحْيِيكُمْ ثُمَّ نَرْجِعُكُمْ تَارَةً أُخْرَى)

ترجمہ: اسی [زمین] سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ [طہ: 55]

طاہر ابن عاشور کہتے ہیں:

”فرمان باری تعالیٰ: (اور اسی میں لوٹا دیں گے) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مُردوں کو چھپانے کیلئے زمین میں دفننا ہی شرعی طریقہ ہے، چاہے اس کیلئے [قبر] بھد بنائی جائے یا شق بنائی جائے؛ کیونکہ دونوں صورتوں میں زمین کے اندر ہی انسان کو لوٹایا جاتا ہے۔

چنانچہ کچھ غیر مذہب اقوام کی جانب سے مُردوں کو آگ میں جلانا، پانی ڈبونا، یا زمین کے اوپر تابوت میں بند کر کے رکھنا یہ سب کچھ فطرت، اور سنت الہی سے متضاد ہے، کیونکہ فطرتی تقاضا ہے کہ میت زمین پر ہی گرتی ہے، اس لئے اُسے زمین ہی میں دفنانا ضروری ہے۔

اسی لئے انسانی تاریخ میں پہلی تدفین اس وقت ہوئی تھی جب آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اسی بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَبَحَثْ

اللَّهُ عُرَابَا بِحَثْفِ فِي الْأَرْضِ لِيَرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ

أَجْرِهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ

فَأَوْرِي سَوْءَةَ أَخِي۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کونے کو بھیجا، جو زمین کھودنے لگا، تاکہ اُسے دیکھائے کہ اپنے بھائی کی نعش کو کیسے چھپائے، وہ کہنے لگا: ہائے میری ہلاکت! میں اس کونے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی نعش چھپاؤں! [المائدہ: 31] چنانچہ تمام آسمانی شریعتیں زمین میں دفن کرنے کو لازم قرار دیتی ہیں "انتہی" التحریر والتنوير " (16/240)

اور صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں:
"قبر کے گڑھے میں میت کو دفنانا واجب ہے، تاکہ میت کو درندوں کے کھانے سے محفوظ کیا جاسکے، اور عام طور پر سیلاب کی وجہ دفنائے ہوئے مردے باہر بھی نہیں آتے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یہ بات شریعت میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ: [قبر کے گڑھے کو گہرا، اور اچھی طرح کھودو] "نسائی نے روایت کیا اور ترمذی نے صحیح بھی کہا ہے" انتہی " الروصۃ الندیۃ " (1/174)

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:
"تدفین کیلئے کم از کم یہ ہے کہ میت کو ایسے گڑھے میں دفن کیا جائے جہاں سے میت کی بو نہ آئے، اور درندوں سے محفوظ رہے" انتہی " روصیۃ الطالبین " (1/191)

رملی رحمہ اللہ کہتے ہیں:
" [المناج کے مؤلف امام نووی کے] قول "گڑھے" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو زمین کی سطح پر رکھ کر اسے ان دونوں [یعنی: مردے کی بو، اور درندوں] سے بچانے کیلئے اس پر [کمرہ ناقبر] تعمیر کرنا کافی نہیں ہے" انتہی " اور ابن عابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں:
" [مردے کو] سطح زمین پر رکھ کر تدفین کیلئے اس پر [کمرہ ناقبر] تعمیر کرنا کافی نہیں ہے" انتہی " حاشیہ ابن عابدین " (2/233)

خلاصہ یہ ہے کہ:
میت کو سطح زمین پر کمرہ ناقبر میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کام کی ممانعت علمائے کرام نے واضح لفظوں میں ذکر کی ہے۔

اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس طرح اس لئے کرتے ہیں کہ زرعی زمین ہے، اسکا مطلب یہ ہو کہ وہ جب بھی قبر کیلئے زمین کی کھدائی کرتے ہیں تو وہ پانی سے بھر جاتی ہے، تو یہ زمین کی سطح پر دفن کرنے کیلئے مقبول عذر ہے، جس کی وجہ سے آپکے ذکر کردہ طریقہ کے مطابق دفن کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ شرعی طریقہ کار کے مطابق مردوں کی تدفین کیلئے اس مسئلے کے حل کی پوری کوشش کی جائے، اور اس کیلئے انجینئرز کی خدمات حاصل کریں، ویسے اس مسئلے کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کافی مقدار میں ریت ڈال کر قبرستان کو ارد گرد کی زمین سے اونچا کر دیا جائے، یہ طریقہ متعدد قبرستانوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

چنانچہ کسی بھی بستی یا شہر کے لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اپنے مردوں کو شریعت کے مطابق دفن کریں، شریعت سے متضادم انداز میں دفن مت کریں۔

اور جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے ذکر کردہ طریقے کے مطابق ضرورت کی بنا پر دفن کیا جاسکتا ہے۔

اور سوال نمبر: (103880) اور (203334)

بھی دیکھیں

واللہ اعلم.